



سوال

(232) کسی کو اجرت دے کر مکمل قرآن پڑھانا

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

کوئی شخص یونہی اس طرح منت مانے کہ میں قرآن شریف ختم کروں گا کیا وہ کسی شخص کو اجرت دے کر قرآن ختم کرا سکتا ہے؟ اور کیا ختم کرنے والے کے لئے اجرت و معاوضہ حلال ہوگا؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحة السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

بہتر یہ ہے کہ منت ملنے والا قرآن ایسے شخص سے ختم کرائے جو پڑھنے پر معاوضہ کی شرط نہ کرے۔ لیکن من اختلاف العلماء اور اگر بغیر معاوضہ کے ختم کرنے والا شخص مہلے تو معاوضہ دے کر ختم کرا سکتا ہے اور ختم کرنے والا یہ معاوضہ لے سکتا ہے۔

ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زوج رجلاً بما معه من القرآن (متفق علیہ) واذا جاز لتعليم القرآن عوضاً في باب النكاح وقام مقام المهر جاز اخذ الاجرة عليه في الاجارة وقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احق ما اخذتم عليه اجر كتاب اللہ (بخاری وغیرہ) والعبرة بالعموم لا بخصوص السبب ولا يعارضه احاديث غیر الصحیحین لفقدان شرط المعارضة وهو المساواة في الدرجة والمرتبة

وقال بعض العلماء من الحنفية: لو كان ختم القرآن لمطالب دينية طاب لاه الاجرة بهذا نقله الشامي وشيخه بنقول كثيرة من اهل المذهب وقال بعد ورقة قدم مني ان اخذ الاجر على قراءة القرآن للمواضع النبوية جاز بقية التعليم ففيه ايضا توسيع عملي ما عطل به قاضي خان من ان الوظائف في الزمان الماضي كانت على بيت المال ولما اعدم عادت الفريضة على رقاب الناي واما اخذ الاجر على ائصال الثواب للميت فلي فيه تردد شديد واكتف لسانی عنه (فيض الباري 3/288)

وانما نقلنا قول هذا لبعض وان لم يكن اليه حاجه بعد ما ذكرنا من الحديث الصحيح باتفاق الامية ليضمن به قلب من هو مولى باقوال الرجال وارهاء مم حتى الزم على نفسه وغیره من المسلمين تقليد الرجال الغير المعصومين من غير برهان والا دليل من كتاب والاسنة والجماع والاقياس

هذا ما عندي واللہ اعلم بالصواب



فتاویٰ شیخ الحدیث مبارکپوری

جلد نمبر 2 - کتاب النذر

صفحہ نمبر 438

محدث فتویٰ